

فرہنگ لغات ریچھریہ



باب الالف

1963

کیفیت

۱۱
۱۲

جہاں آوی سے پڑتا ہے اور اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ ایک چھل در چھل دہتا ہوتا ہے۔

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
اَظْفار	حصہ ملک	اَقْدَمین	پشتا۔ اگلی اور ارضیات	مجمع ارض۔ پڑنا	جمع ارض۔ پڑنا	اَضْحال	مشرود کی
اَزَلِ الاَبال	قدیم	اَزلی	قدیم	اَفراء	ایک ایک	اَضنا	مجمع لفظ۔ ابدن کا جوڑ
اَبمال	مختصر کرنا	اَبتاج	مجمع ماٹھ	اَبطال	بہتر کرنا	اَبطال	بہتر کرنا
اَبْتِباب	بہتر کرنا	اَبْتَداد	سنوارنا	اَبْتِباب	پرہونا	اَبْتَداد	جدائی
اَبْتِصاف	نصرت	اَبْتِصاف	اَبْتِصاف	اَبْتِصاف	بندھی	اَبْتِصاف	کلی
اَبْتِمار	میوے	اَبْتِمال	اَبْتِمال	اَبْتِمال	حاصل کرنا	اَبْتِمال	حقیقت پر پختا
اَبْتِمان	مقبوط کرنا	اَبْتِمان	مقبوط کرنا	اَبْتِمان	باران۔ پانی	اَبْتِمان	اہم
اَبْتِماع	سنتا	اَبْتِماع	کے سنتا	اَبْتِماع	مٹھ پیرنا	اَبْتِماع	انجھ
اَبْتِمنہ	مجمع زمانہ	اَبْتِمنہ	مجمع زمانہ	اَبْتِمنہ	اَبْتِمنہ	اَبْتِمنہ	اَبْتِمنہ
اَبْتِماث	پیدا کرنا	اَبْتِماث	پیدا کرنا	اَبْتِماث	گروہ ہا	اَبْتِماث	اَبْتِماث
اَبْتِالابین	ہمیشہ	اَبْتِالابین	ہمیشہ	اَبْتِالابین	نام ہا	اَبْتِالابین	اَبْتِالابین
اَبْتِام	مٹانا	اَبْتِام	مٹانا	اَبْتِام	جمع دین	اَبْتِام	اَبْتِام
اَبْتِاسح	کشادہ تر	اَبْتِاسح	کشادہ تر	اَبْتِاسح	جد ہونا	اَبْتِاسح	اَبْتِاسح
اَبْتِاسکبار	غرور	اَبْتِاسکبار	غرور	اَبْتِاسکبار	سرخ ہا	اَبْتِاسکبار	اَبْتِاسکبار
اَبْتِاسود	شیر جمع ہا	اَبْتِاسود	شیر جمع ہا	اَبْتِاسود	برہمقدر	اَبْتِاسود	اَبْتِاسود
اَبْتِاموال	مجمع مال	اَبْتِاموال	مجمع مال	اَبْتِاموال	دوسرا دیکر	اَبْتِاموال	اَبْتِاموال
اَبْتِاتلاف	بہتر کرنا	اَبْتِاتلاف	بہتر کرنا	اَبْتِاتلاف	بہتر کرنا	اَبْتِاتلاف	اَبْتِاتلاف

بیت کا وہ

۱۱

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
آرکان	کهنه جمع کن	ابواب	دروازه	انزوا	گوشه نشینی	آدوار	جمع دور-نا
استغانت	دو چاهنا	اجتماع منزل	اجتماع مد	اجتماع مد	اجتماع مد	اصول	قاعدے
ارتکاب	اختیار کرنا	افتراس	پہاڑنا	اخلاص	دھوکا دینا	اباحت	احکام حلال کو ایک فرقہ ہی حکم نزدیک
اشترک	شریک کرنا	ازالہ	دور کرنا	اشاعت	ظاہر کرنا	اجتناب	پرہیز کرنا سب درست ہے
اعتصاب	غضب کرنا	استکشاف	کشف کرنا	آراد	جمع را	آدائی	کینہ
آفراد	ایک ایک	انجس اشان	کم قیمت	ایاد	انکار کرنا	ازنگز گشتن	ایک بار بار کھانا یا شاہ خانا
آبیغور	پونان نام ایک	آبیکو بنیا	پیرا بیکو بن	ادغار موند	ذخیرہ جمع کرنا	آلقاب	انزودہ میں تھانہ کا نام اور اجانت و اشتر کہتے ہیں۔ پونا تھا اور اسکے پونہ تھے۔ ایک اور کہتے ہیں۔
آجینیہ	غیر	ارتقا	اوپر جانا	آکلین	کھانینو کے	آلب	ایک مہا آجینیہ
اکاسرہ	جمع کسرے	آگنہ	آطراف	الموت	ایک موضوع پر	الواج	اسخٹہ یا بار شاہان ایران کا نام۔ وہاں مرکز با صمیم تھا۔
ارضی	جمع ارضین	اوپش	پچھو پچھو	اعادہ	دوہرانہ	احیار	زندہ کرنا۔ ایک اور معنی ہے۔
کالی پوری	خیزن	ادام	جمع دم-گمان	اعراض	جمع عرض	اجتماعین	جمع اجتماعی
شہل	شہل	انراب	جمع قرب-طا	انقراض	کشتا	آفبیا	بیوقوف جاہل طریقہ اجانت و اشتر کہتے ہیں۔
خوشگ	خوشگ	اجحافات	نر پکوتی	آہوار	خوابش لفتنا	آودیہ	درہ
متصف ہونا	اعوان	جمع صین-کو	آدوات	آلات	احقان	حق کرنا	
الزام دینا	افراز	آلات	ارزودہ	جز-صل	اعلام	نشان د	
سانپ	اسہ بار	جمع سر پید	اوضح	ظاہر ترین	اکوان	جمع کون-نیا	
سرفرا	فدا کرنا	انفراد	علیٰ علیہ	اقتناء	چھٹنا	آ	لیں
اعتراف	اقرار کرنا	باب بای فارسی					
قیبہ	کشاہکی	بسبب	کشاہ-ک	بزرہ	نغم-بیج	بزر	بزرگم

معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ
جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت	جمع جہت
بروز	بروز	بروز	بروز	بروز	بروز	بروز	بروز
گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن	گردو پختن
مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان	مجلس نوابان
ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر
بڑا	بڑا	بڑا	بڑا	بڑا	بڑا	بڑا	بڑا
گشاہی	گشاہی	گشاہی	گشاہی	گشاہی	گشاہی	گشاہی	گشاہی
کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز	کودن- برز
جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا	جمع برز- دینا
پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل	پیارے بانی عقل
باب الماء							
تکون	تکون	تکون	تکون	تکون	تکون	تکون	تکون
تبدل	تبدل	تبدل	تبدل	تبدل	تبدل	تبدل	تبدل
کنہنا	کنہنا	کنہنا	کنہنا	کنہنا	کنہنا	کنہنا	کنہنا
تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ	تسلیہ
درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا	درافت کرنا
برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا	برابر کرنا
آرستگی	آرستگی	آرستگی	آرستگی	آرستگی	آرستگی	آرستگی	آرستگی
کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن	کنہنہ کاسیلن
متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا	متاثر ہونا
تقسیم	تقسیم	تقسیم	تقسیم	تقسیم	تقسیم	تقسیم	تقسیم
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا
تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا	تعمیر کرنا

۱۔ دستخط میں ایک عالم کا نام ہے۔
۲۔ وہ سلسلہ میں جو آپ کو چاہتا ہے
۳۔ اذہ

۴۔ آخر نامہ میران میں
۵۔ اس پر جوئی اور ہند
۶۔ خزان کیا اور انکو
۷۔ سید علی محمد آقا
۸۔ اب معاملہ نام میں عکس کے
۹۔ کلہ میں قید کر کے نام اور سکا
۱۰۔ مرزا حسین علی در لفظ اور سکا
۱۱۔ بہار ہے۔

۱۲۔ یہ لفظ فرانسسی ہے

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
حرارت	گرمی	حی	زنده ہونا	مبارہ	گرم	سقط	خوش
حقایق	حالات	حامی	مددگار	حقہ	رہت رات	مدود	جمع حد
جینیات	جمع حدیث	حق	اٹھانا	مملکت	مملکت	مملکت	مملکت
حقوقہ	مراقبہ اپنی	حکومت نظر	حرف	پیشہ کا	خط لانا	خط لانا	خوش طبعی
حکومت مظاہر	جہاں کے نواح	پہرہ بندی	مرتب	نگاہ پائی	حد اعدا	مشرط	مشرط
حذر	پرہیز	حایل	پہرہ باندھنا	عقل کرنا	عقل کرنا	عقل کرنا	عقل کرنا
حیفہ	ہلکی	حکم	جمع حکم				

اس کو حکومت کو کہتے ہیں
 رعایا بادشاہ بنا دینے
 سے وہ حکومت سمجھتے ہیں
 عالم کی حکومت مظاہر
 کبھی اس کے جو
 سے وہ حکومت سمجھتے ہیں
 حاکم کو خود اختیار ہے

باب الحشاء

خمس	پانچ	خواص	خاصہ	خفت	بخسیر	مستور
خط استوا	خر غبلات	بی مہل	خون	بلا چور	خصایل	جمع خصلت
خلل	برای	کینہ	جنت	بجل	خارجیہ	بیرونی
خداوند	مکر	دوستی	خضوع	دشمن	خاستہ	جوری
خوشی	فکر	جہانت	برائیان	علحدہ کرنا	خفیہ	پوشیدہ

باب الدال

دوہر	جمع و نرنا	دارون	ایک حکیم حکما ہی طبعین کا نام جو سب انسان کی اصل تندرستی بتاتی ہے
دواعی	دواعی	دواعی	دواعی
دوہر	جمع و نرنا	دارون	ایک حکیم حکما ہی طبعین کا نام جو سب انسان کی اصل تندرستی بتاتی ہے
دواعی	دواعی	دواعی	دواعی

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
دماغ	جمع دم خون	پیشانی	پیشانی	دعات	دعوت گزیده	دعاج	بڑا سجا چوٹا

باب الذال

ذایح	ظاہر	ذاسیب	چلنے والا	ذمیرا طیس	ایک یونانی حکیم تھا۔	ذابل	عظمت گزیرا
ذاب	بہتر سے	ذال	حقارت	ذیہو	ذرا سی	ذنوب	گناہ

باب الراء

رابع	چارم	رہ	پہیلا	رہجا باب	ناہستہ کھانا	رائع	بلند
رموز	اشارہ دیکھا	رکن	کینسترن	رگین	ناب	رودا بلط	جمع رالبلط
ریب	کرشک	رادع	منع گزیرا	زرد آمل	جمع زردیلے	رمانیت	پیشانی
رؤید	بڑا کیند	رفح	بلند کرنا	رعایا	جمع رعیت	رزایا	سجیتہا
ریح	ہار	رمز	اشارہ	رحلت	کوچ	ردمان	نام قوم
رسو	ایک حکیم تھا	رت حلیلہ	عمدہ تہہ	.	.	.	پننے لڑکین

باب الراء

زلوج	ایک گروہ	زاجر	منع گزیرا	زادیه	گوشت	ردایا	جمع زادیہ
زعم	گمان	زبانیرہ	سونا اور چرم	زعمیرہ	ریش وکیل	زخوف	بد باطن

باب الساین

سویح	عین	سطلہ	پالین کا چھل	سخت	سخت	سموات	آسمانے
سعدیات	سخت	سبیرا	.	سین	ساہا	سمن	موتامی
سخت	محمد سیوح	ساین	پانگنے والا	سلوک	جلن	سجایا	جمع سجیہ
سکن	ایک حکیم تھا	سجیہ	خصلت	سجرات	وردیا	سلطہ	توت و علسہ

1. ایک ملک جو بحر ہند میں ہے۔
 2. ایک جزیرہ نام ہے۔
 3. ایک شجر ہے۔
 4. ایک قسم کا پتھر ہے۔

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
سهولت	آسانی	سکاسل	زنجیرین	سورجین	بیک دریا	سخت	دراخی
سرخ	پهلو چیلنا	سخره	مسنو این	سوت	گرمی	سنگ دماو	خون گریخ
سحق	مکاپینا	ساند	پایین	سی طین	گرفتن عمده	سرد عیش	به عیش
باب الشیخ							
مشردم	طایفه قلید	شاعر	دانا	شاپین	نام پروردگار	نورب	قبیله دنا
مشفاق	اختلاف حکم	شیرع	ظاهر گونا	ششینر	برای	سجده	خصلت
مشیت	بد خلق	شاقه	دشوار	شردر	فسادها	شایسته	نگار میل
شاسف	شومی	شارمین	پسیند والا	شره	حرص	شست	کشاکش
باب الصاد							
صنار	چو سٹے	صلبه	سخت	صوڑ	جمع صورت	صفت	متم
صوڑ	ظاہرہ	صوڑ	بلند	صدد	سراخ پنه	صباغ	جمع صفت
صدہ	راست	صراط	راه	صوامع	عباد گماہ	صیانت	پنجا
صمالیک	بزرگ نوم	صیقل	بصاف کرنا	صنفت	منسوب است	.	
باب الضاد							
ضورت	ضردری	ضلال	گمراهها	ضاریہ	درند و چیر	ضراب	عکس
صفت	نا توانی	صبر است	لواجی	ضلالک	گراست		
باب الطاء							
طبع	طبیعت	طبعین	.	طبعی	طبیعت	طایفه	گرده
طعم	ذائقہ	طین	جابه	طاعون	نام مرض جنگ	طعم	حرص

بسی در بعضی چندان
اعتقاد نہیں رکھتے

کفایت

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
ظفر	ظفر	طبق	طبقه	طبقات	طبقه	طبقات	طبقه
ظهور	ظهور	ظهور	ظهور	ظهور	ظهور	ظهور	ظهور
ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر	ظاہر

باب المعین

علت	علت	علاج	علاج	علاج	علاج	علاج	علاج
عصفر	عصفر	عصفر	عصفر	عصفر	عصفر	عصفر	عصفر
عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت	عجوبیت
عمود	عمود	عمود	عمود	عمود	عمود	عمود	عمود
عموم	عموم	عموم	عموم	عموم	عموم	عموم	عموم
عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم
عظام	عظام	عظام	عظام	عظام	عظام	عظام	عظام

باب العین

عابد	عابد	عابد	عابد	عابد	عابد	عابد	عابد
غافل	غافل	غافل	غافل	غافل	غافل	غافل	غافل
غدر	غدر	غدر	غدر	غدر	غدر	غدر	غدر
غضب	غضب	غضب	غضب	غضب	غضب	غضب	غضب
غفران	غفران	غفران	غفران	غفران	غفران	غفران	غفران

باب الفاعل

فاضل	فاضل	فاضل	فاضل	فاضل	فاضل	فاضل	فاضل
فضائل	فضائل	فضائل	فضائل	فضائل	فضائل	فضائل	فضائل
فضول	فضول	فضول	فضول	فضول	فضول	فضول	فضول
فضیلت	فضیلت	فضیلت	فضیلت	فضیلت	فضیلت	فضیلت	فضیلت

ایک گروہ میں جو بکتے ہیں کہ جب
انتہا تک پہنچتے ہیں۔

طریق آہنی جو گردن میں پڑتا ہے

اضعیہ سالنہ شاکا
بکرتنالا

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
فنا کین	دہو کے سے لیکر نوب جاننا	فاسح و عاود	دعوے کو جدا کرنا	فرض حال	مشکل کو ماننا	فطرت	طبیعت دانہ می
فرائس سران	فاضلہ	بزرگہا	فقدان	فقدان	زاید ہا	فیوضات	ایک سرخ تھا فرانس اور جسے تاریخ سرق کہتی ہے
فضلات	زاید ہا	فقدان	فراہم	جمع فرض			
باب القاف							
جرن	سورس کے	قطعہ	ابن قطعہ	قوا	ایک حرقہ	قرون	جمع قرن
قواس	جنس چرس	قوام	پاداری	قطع	کاٹنا	قرا	قہرا
قوی	جمع قوہ	نیل	کاٹنا	قبح	کاٹنا مراد	قنا	تاریخ
قطاع الطریق	ہٹا	قناطر	ہل ہا	قصات	جمع قاضی	قتل	ڈھانسا
قصر	محل	قوی	مضبوط	قبح	بد	قلم	قدم چلے
قرۃ عظمیٰ	یعنی عتقہ کا پاداری	قبیل العبد	کم شمار	قید	جمع قید	قرب	مسالی
قباد	نوشیروان کے پانچا نام سے	قوانین	قاعدے	قرن	پندرہ سو	قیاسہ	بازنہ
قائم حق	مدنی عتقہ کے کہتے ہیں	قرۃ	گانون	قذر	پتیدہ ہنپاک	قبائل	دو اشترال کو دلیج
قلاہ	کاٹنا کٹنا	قیس	پادری	قناع	قناعت کینرا		
باب الکاف							
دالب	جمع کوکب	کلبی	منسوب بہ	کرور	گذشتن	کشتیاں	نام عربی
کید	جلد	کف بیل	ایک تاشہ نیم چم	کاشف	کھولنے والا	کذب	دروغ جیوت
کاسرہ	نور طیفہ	کاسرہ	جمع کاب کئی	کمون	پوشیدگی	کج	بازرگنا
کاشف	نہی سرگز	کھیت	بکاسب	کنایہ	اشادہ	کافی	پورا
کعبین	بیش	کعبین	منسوب بہ	کاسب	کھونا	گرد کوہ	اور وہاں ایک مگر ہا طسہ کا تھا۔

لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی	لفظ	معنی
فدہ	جاری ہونے والا نکلنے	کیس	کلپ	کف	روکن	کید	کبد		کیفت
ٹرا	لڈریت	سینج	کیف	میللا	کدراوہام	وہم کا میل			
کیسر	نیزو	وزیر رسا کا							
باب اللم									
لکھت	بکبان	لوانیم	حجج لانیم	سزوم	مشہدینا				
وسم	نال یعنی	لبیب	شوق پلٹ	لین جس					
ابس سز	آدمی کا سہا	لیتر	مدسب ریٹینا						
باب المیم									
مفسد	برائیاں	مدنیت	شہریت	ملت	فدیہ				
مکونات	موجودات	مدہ	زمان	ماوہ	دارا و ازہم				
مجو	بلااودہ	منزہ	پاک	ماہیت	حقیقت				
متنوع	قسم قسم	مواد	جمع مادہ	مولیہ حجج	نباتات و حیوانات				
متقنہ	مضبوط	مؤلف	مرکب	متحرک	حکرت کر جوالا				
مخفی	پوشیدہ	مقادیر	جمع مقدار	مشاہی	کرمینوال				
مرتبہ	ہم مثل	سرو	گذرنا	منکون	پیدا ہونے والا				
جماعت	سوخنہ	ملاسما	جدا ہونے والا	مقتضی	دانش اثر				
مقابلہ	مائل	کھانا	منشقہ	دایرہ					
مٹانہ	جدا جدا	ہم قسم	منہ	بہا باقی					
مختل	مختل	مختل	مختل	مختل	بیر جہد				

اور سنیہ ایک کتاب تھان
تو قحط کی توریہ۔ یہ تصنیف
کی ہے۔

کچھ جہاد پر
مل وغیرہ۔

لفظ	معنی	لفظ	معنی	کیفیت
باب الہاء				
ہست	ہو گیا	ہو	ہو گیا	گرا یا
ہست	ہو گیا	ہو	ہو گیا	گرا یا
باب الیاء				
یام یام	ایک قوم بن سو دا جون سے او پھرتی ہیں	یام	یام	یام

تخت	تخت
تخت	تخت
تخت	تخت

